

كَرْبَلَاءُ وَيَالَهَا كَرْبَلَاءُ \* نَالَ فِيهَا الْحُسَيْنُ كَرْبُ بَلَاءُ

ڪربلاء ني زمين! عجب يہ ڪربلاء ھي جہ ما اقا حسين نے ڪرب (مصيبة) انے بلاء پہنچي.

قَتَلُوهُ عَطْشَانَ مُنْذُ ثَلَاثِ \* لَمْ يَصِلْهُ - وَالْهَفْتَاءُ - الْمَاءُ

سگلا دشمنو يہ اپنے تين دن ني پياس ماقتل ڪيدا ،  
عجب پستاؤ! اپنے اتين دن ما پاني نو ايڪ بهي گھونٺ نہر پہنچو.

إِنَّ رِزْقَ الْحُسَيْنِ رِزْقٌ عَظِيمٌ \* لَمْ يَكُنْ مِثْلَ رِزْقِهِ الْمُرْزَأُ

حسين ني مصيبة گھني مھوئي مصيبة ھي ، اپني مصيبة ني مثل کوئي مصيبة نہي .

كُلُّ رِزْقٍ لَهُ يَكُونُ عَزَاءً \* مَا لِهَذَا الرُّزْقِ الْجَلِيلِ عَزَاءُ

ھر مصيبة ما ايڪ نا ايڪ دن تسلي اوے مگر ا جو ڪھم ما ھرگز صبر نہر اوے .

مَنْ بَكَى أَوْ أَبْكَى عَلَيْهِ بَجَاءً \* تِ شَمَانٍ لَهُ يَكُونُ الْجَزَاءُ

جہ شخص ڪر روي ، رولاوے انے روونر اوے تو رووا جي و منھ بناوے تو اھنا واسطے اھ جنة ني جزاء ھي .

أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ فَابْكُوا كَثِيرًا \* وَلَيْكُنْ دَائِمًا عَلَيْهِ الْبُكَاءُ

اے مؤمنین تمے حسین نے گھنوروجو، ہمیشہ روتا رہجو۔

وْخُصُوصًا إِذَا آتَاكُمْ أَيَّامُ شِعْبِ \* عَةِ آلِ النَّبِيِّ عَاشُورَاءُ

خاصة اے آل نبی ناشیعة! جیوارے تمنے عاشوراء نودن اوے (تو گھناروجو)۔

